

20 نومبر 2018

برامپٹن سٹی کونسل کی افتتاحی تقریب 3 دسمبر کو منعقد کی جائے گی تقریب کو براہ راست نشر کیا جائے گا

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن اپنی نئی کونسل کی افتتاحی تقریب بروز پیر، مورخہ 3 دسمبر کو روز تھیٹر، 1 تھیٹر لین میں بوقت شام 8 بجے منعقد کرے گا۔ اس تقریب کے دوران سٹی کونسل کے نئے ممبران 2018-2022 کی مدت کے لیے اپنے عہدوں کا رسمی حلف اٹھائیں گے۔

کونسل کی افتتاحی تقریب کو سٹی کی ویب سائٹ www.brampton.ca کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ گارڈن اسکوائر میں ایک بڑی LED اسکرین بھی نصب کی جائے گی (روز تھیٹر کے باہر)۔ تقریب کو براہ راست نشر کرنے کا بندوبست کنزرویٹری، سٹی ہال کے گراؤنڈ فلور، 2 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ میں بھی کیا جائے گا، جس میں عوام لناس کی شرکت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سٹی ہال میں انٹر گراؤنڈ پارکنگ کا بندوبست موجود ہے۔ اضافی پارکنگ ڈاؤن ٹاؤن میں دستیاب ہے۔ www.brampton.ca پر www.brampton.ca کی ویب سائٹ پر تعاملی نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔

کلیدی سرخیاں

- اعلیٰ شخصیات بشمول MPs، MPPs کے علاوہ پیل ریجنل پولیس، پیل ریجنل پیرا میڈیکس سروسز اور کمیونٹی گروپس کے نمائندگان کو افتتاحی تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔
- چونکہ نشستوں کی تعداد محدود ہے، لہذا عوام الناس سے التماس کی جاتی ہے کہ اگر وہ تقریب میں شرکت کرنا چاہیں، تو انہیں [Rose Theatre's Box Office](http://www.rosetheatre.ca) سے www.rosetheatre.ca پر اپنی نشست بک کروانی چاہیے۔
- معذور افراد کی نشستوں کی تعداد محدود ہے، براہ کرم رابطہ کرنے کے لیے باکس آفس کو 905.874.2800 پر کال کریں۔
- میڈیا کے ممبران کو ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں ہے؛ تاہم، منظوری کے حصول کے لیے، شرکت کی تصدیق لازمی طور پر mediarelations@brampton.ca کروانی جانی چاہیے۔
- باضابطہ تقریب شام 8 تا 9 بجے تک چلے گی اور اس کے بعد روز تھیٹر میں موجود حاضرین کی خیرمقدمی تقریب منعقد کی جائے گی۔
- افتتاحی تقریب میں انیشیایاب کلچرل کنسلٹینٹ کی جانب سے ایک سمڈگنگ سپرمونی بھی منعقد کی جائے گی؛ جس میں لورن اسکارٹس پائپرز اور برامپٹن فائر، انفورسمنٹ، پیل ریجنل پولیس اور پیرامیڈک سروسز آنر گارڈز کے دستے بھی زبردست مظاہرے پیش کریں گے۔
- اس کے بعد کونسل کے نئے ممبران کو اپنے محکموں کے قلمدان سونپے جائیں گے، میئر کی افتتاحی تقریر ہو گی اور اس کا اختتام نئی کونسل کی جانب سے ضمنی قانونی کی منظوری کے ساتھ ہو گا۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں www.brampton.ca پر فالو کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca

